

Aaj Ki Naiki-2024

اذکار

1: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا خَلَقَ الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي

الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا فِي الْأَرْضِ وَمَا فِي السَّمَاءِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ

عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ الْحَمْدُ لِلَّهِ مِلْءَ كُلِّ شَيْءٍ وَسُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلَهُنَّ

Praise be to Allah to the amount of what He created, praise be to Allah to the quantity that fills what He created, , praise be to Allah to the amount of what He created in the earth and the heavens, praise be to Allah to the amount of what is in the earth and the heavens, praise be to Allah to the amount of what is enumerated in His Book praise be to Allah to what fills in His Book, praise be to Allah to the amount of everything, praise be to Allah to that which fills everything and Glory be to Allah, similar to them.

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اسکی مخلوق کی گنتی کے برابر میں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اسکی مخلوقات بھر جائیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین اور آسمانوں میں ہیں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے جو زمین اور آسمانوں میں ہیں بھر جائیں، اور تعریف

کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، جس سے ہر چیز بھر جائے اور پاکی بیان کرتا ہوں ان سب کے برابر۔

2: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

There is no God but Allah, Muhammad ﷺ is the Messenger of Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ محمد ﷺ رسول اللہ ہیں۔

3: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

Glory be to Allah and Praise to Allah, and there is no God but Allah, and Allah is the Greatest.

پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

5: اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ

O Allah, bestow your favor and peace upon our Prophet Muhammad

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
اے اللہ! ہمارے نبی محمد صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر رحمت اور سلامتی بھیج۔

6: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

بِاللَّهِ

Glory be to Allah and Praise to Allah, and there is no God But Allah, and Allah is the Greatest and there is no power and no strength except with Allah.

پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

8: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

There is no power and no strength except with Allah.

گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ (صحیح مسلم)

A R R A H M A H



9: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ

أَكْبَرُ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise and He is over all things All Powerful. There is no power and no strength except with Allah. Glory be to Allah and Praise to Allah, and there is no God but Allah, and Allah is the Greatest.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے۔

12: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ

وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلِي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ

مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ

O Allah, bestow mercy upon Muhammad ﷺ and the family of Muhammad ﷺ just as You bestowed mercy upon Ibrahim (A.S) and upon the family of Ibrahim (A.S). Verily, You are full of praise and majesty. O Allah, send blessings upon Muhammad ﷺ and upon the family of Muhammad ﷺ, just as You sent blessings upon Ibrahim(A.S) and upon the family of Ibrahim(A.S).
Verily, You are the Most Praise worthy, the Most Glorious.

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آلِ محمد ﷺ پر جس طرح رحمت نازل فرمائی تو نے ابراہیم پر اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے، اے اللہ! برکت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آلِ محمد ﷺ پر جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے ابراہیم علیہ السلام پر اور آلِ ابراہیم علیہ السلام پر، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔

13: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

There is no God but Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔

14: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ

Glory be to Allah and His Praise.

پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت۔

15: اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا وَسُبْحَانَ اللَّهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا

Allah is Most Great and much praise be to Allah and glorified be Allah at the beginning and end of the day.

اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا اور کثرت سے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے اور صبح و شام اللہ کی پاکی ہے۔

16: سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Glorified is Allah. All praises are for Allah. Allah is the greatest.

پاک ہے اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔

17: رَضِيتُ بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا

I am pleased with Allah as (my) Lord, with Islam as (my) religion, and with Muhammad ﷺ as (my) Prophet.

میں اللہ کے رب ہونے، اسلام کے دین ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر راضی ہوا۔

18: سُبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ

Glory be to the Sovereign, the Most Holy.

پاک ہے وہ ذات جو حاکم مطلق ہے اور ہر اعتبار سے پاک ہے۔

20: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَسْتَغْفِرُكَ

وَأَتُوبُ إِلَيْكَ

O Allah, You are free from every imperfection; praise be to You. I testify that there is no true god except You; I ask Your Pardon and turn to You in repentance.

پاک ہے تو اے اللہ! اور سب تعریف تیرے لیے ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔

21: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise and He is over all things All Powerful.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔



22: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

There is no God except Allah Alone, no partner has He.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے۔

23: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ

None has the right to be worshipped but Allah and Allah is the Most Great.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں (ابن ماجہ)

24: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے۔

25: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

There is no God except Allah Alone. There is no power and no strength except with Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

26: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ

عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise, all good is in his hands and He is over all things All Powerful.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے اور اسی کے لیے تمام تعریف ہے، تمام خیر اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

27: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise, He brings life and He causes death, and He is over all things All Powerful.



اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے وہی زندہ کرتا اور وہی مارتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔

27: سُبْحَانَ اللَّهِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Glorified is Allah. All praises are for Allah. Allah is the greatest.

پاک ہے اللہ۔ سب تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے۔

28: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ

الْعَظِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

There is no God except Allah Alone, the Most Generous, the Forbearing, glory be to Allah, Blessed be Allah, Lord of the mighty Throne and praise be to Allah the lord of the Worlds.

کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے جو حلیم ہے، کریم (کرم والا) ہے، پاکی ہے اللہ کی اور اللہ بابرکت ہے جو عظیم عرش کا مالک ہے، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے۔

A R R A H M A H



29: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا

الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ

There is no Deity besides Allah, the One who is Alone, the Conqueror, the Rabb of the heavens and the earth and all that is between them, the All-Mighty, the All-Forgiving.

”نہیں ہے کوئی معبود برحق، مگر اللہ، جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں، زمین اور ان دونوں کے درمیان والی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بخشنے والا ہے۔“

30: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ

Glory be to Allah, and Praise, Glory be to Allah, the Supreme. (100 times)

پاک ہے اللہ اپنی خوبیوں سمیت، پاک ہے اللہ بہت عظمت والا ہے۔ (صحیح مسلم)

31: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَي مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

O Allah, bestow mercy upon Muhammad ﷺ and the family of Muhammad ﷺ.

اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد ﷺ پر اور آلِ محمد ﷺ پر (صحیح الجامع)

32: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ

كَلِمَاتِهِ

Glory be to Allah, and praise be to Him to the extent of the number of His creation and to the extent of His pleasure and to the extent of the weight of His Throne and to the extent of the ink of His words.

پاک ہے اللہ اور اسی کی تعریف ہے اس کی مخلوق کی تعداد کے برابر، اس کی ذات کی رضا کے برابر، اس کے عرش کے وزن اور اس کے کلمات کی سیاہی کے برابر۔ (مسلم)

33: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ مَا خَلَقَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا فِي

السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ

مِثْلَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ كُلِّ شَيْءٍ

Praise be to Allah to the amount of what He created, and praise be to Allah to the quantity that fills what He created, and praise be to Allah to the amount of what is in the earth and the heavens, and praise be to Allah to the amount of what is enumerated in His Book praise be to Allah to what fills in His Book, praise be to Allah to the amount of everything, praise be to Allah to that which fills everything.



میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اسکی مخلوق کی گنتی کے برابر میں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اسکی مخلوقات بھر جائیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو آسمان اور زمین میں ہیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، جس سے ہر چیز بھر جائے۔

34: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ

وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

There is none worthy of worship besides Allah. He is all by Himself. He has no partner. His is the Kingdom, to Him is all praise. He gives and takes life. He is all by Himself. He will not die. In His hands is all good and He has control (power) over all things.

اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کی بادشاہت ہے اور وہی ہر قسم کی تعریف کے لائق ہے، وہی زندگی بخشتا ہے اور وہی موت دیتا ہے اور وہ خود ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جسے کبھی موت نہیں، ہر قسم کی بھلائی اسی کے ہاتھ میں ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔

A R R A H M A H



35: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ

شَيْءٍ قَدِيرٌ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

There is no God except Allah Alone, no partner has He. To Him belongs the dominion and to Him belongs all praise and He is over all things All Powerful. Glorified is Allah, all praises are for Allah, Allah is the greatest. There is no power and no strength except with Allah. O Allah forgive me.

اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کی بادشاہت ہے، اسی کے لیے تمام تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پاک ہے اللہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اے اللہ! مجھے بخش دے۔

36: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللَّهِ مِثْلَ مَا خَلَقَ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ

مَا فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ

مِلَّءَ مَا أَحْصَى كِتَابُهُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ كُلِّ شَيْءٍ سُبْحَانَ اللَّهِ مِلَّءَ كُلِّ

شَيْءٍ

Praise be to Allah to the amount of what He created, and praise be to Allah to the quantity that fills what He created, and praise be to Allah to the amount of what is in the earth and the heavens, and praise be to Allah to the amount of what is enumerated in His Book praise be to Allah to what fills in His Book, praise be to Allah to the amount of everything, praise be to Allah to that which fills everything.

میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اسکی مخلوق کی گنتی کے برابر میں اور اللہ کی تعریف کرتا ہوں جس سے اسکی مخلوقات بھر جائیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جو زمین اور آسمانوں میں ہیں، اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ان چیزوں کی گنتی کے برابر جنہیں اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں اس پر جو اسکی کتاب نے شمار کیا ہے اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں ہر چیز کی گنتی کے برابر اور میں اللہ کی تعریف کرتا ہوں، جس سے ہر چیز بھر جائے۔

37: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْأَحَدُ

الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

O Allah! I ask you by virtue that I testify that you are Allah; there is no God but You, the one — the Self Sufficient Master, Who did not beget, and was not begotten, and to whom no one is equal.

اے اللہ! میں تجھ سے مانگتا ہوں اس وسیلے سے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ تو ہی اللہ ہے، تیرے سوا کوئی اور معبود نہیں، تو تنہا اور ایسا بے نیاز ہے جس نے نہ تو جنا ہے اور نہ ہی وہ جنا گیا ہے اور نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔

38: اَللّٰهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ قِيَمُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ فِيْهِنَّ، لَكَ الْحَمْدُ اَنْتَ نُورُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ، قَوْلِكَ الْحَقُّ، وَعَدُّكَ الْحَقُّ، وَلِقَاؤُكَ حَقٌّ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ، وَالنَّارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ الْحَقُّ، اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ، وَبِكَ اَمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَإِلَيْكَ اَنْبَتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ، اَنْتَ اِلَهٌ، لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ

A R R A H M A H



39: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَظِيمُ الْحَلِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ لَا إِلَهَ

إِلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَرَبُّ الْأَرْضِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ

There is no true deity except Allah, the Most Grand, the Ever Forbearing. There is no true deity except Allah, Lord of the magnificent Throne. There is no true deity except Allah, Lord of the heavens, Lord of the earth and Lord of the noble Throne.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو بہت بڑا بہت بردبار ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا رب ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور عرش کریم کا رب ہے۔

40: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا

بِاللَّهِ

There is no God But Allah, and Allah is the Greatest. Glory be to Allah and Praise to Allah, and there is no power and no strength except with Allah.

اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، پاک ہے اللہ اور ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

41: يَا حَيُّ يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ

O Ever-Living, O Self-Subsisting, by Your Mercy I seek (Your) assistance.

اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں۔

42: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (21:87)

There is no deity except You; exalted are You. Indeed, I have been of the wrongdoers.

کوئی معبود برحق نہیں سوائے اللہ کے تیری ذات پاک ہے، بیشک میں ہی (اپنی جان پر) زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔

43: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ

إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ

إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ (صحیح بخاری)

O Allah, bestow Your favor on Muhammad and his wives and progeny as You have bestowed Your favor upon the family of Ibrahim. And bless Muhammad and his wives and progeny as You have blessed the family of Ibrahim, You are full of praise, Most Glorious.

اے اللہ! محمد اور آپ کی ازواج اور آپ کی اولاد پر اپنی اے اللہ! رحمت نازل فرما محمد ﷺ پر اور
صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اور آپ ﷺ کی اولاد پر جس طرح رحمت نازل فرمائی تو نے آلِ ابراہیم

آب
الرحمة
ARRAHMAH

عَلَيْهِ السَّلَامُ پر۔ اور برکت نازل فرما محمد صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ پر اور آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی ازواج اور آپ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کی اولاد پر جس طرح برکت نازل فرمائی تو نے آلِ ابراهيم عَلَيْهِ السَّلَامُ پر، بے شک تو ہی تعریف اور بزرگی والا ہے۔

44: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ، أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ

عِلْمًا

Glory be to Allah, and I begin with praise of Him; there is no power but in Allah ; what Allah wills comes to pass and what He does not will does not come to pass; I know that Allah is Omnipotent and that Allah has comprehended everything in knowledge.

اللہ پاک ہے اپنی حمد کے ساتھ۔ نیکی اور خیر اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ جو اللہ چاہتا ہے ہو جاتا ہے اور جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا۔ بے شک اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے اور اس کا علم ہر شے کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔

45: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِي هَذَا الثَّوْبَ وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِنِّي وَلَا

A R R A H M A H قُوَّةٍ



Praise be to Allah Who has clothed me with this and provided me with it through no might and power on my part.

تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یہ کپڑا پہنایا اور میری طاقت و قوت کے بغیر مجھے یہ عنایت فرمایا۔

46: بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ

I begin with the Name of Allah; I trust in Allah; there is no altering of conditions but by the Power of Allah.

میں نے اللہ کے نام سے شروع کیا، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

47: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِیْعُ

السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ذَا الْجَلَالِ وَالْاِکْرَامِ یٰ حَیُّ یٰ قَیُّوْمُ

O Allah, I ask Thee by virtue of the fact that praise is due to Thee, there is no deity but Thou, Who showest favor and beneficence, the Originator of the Heavens and the earth, O Lord of Majesty and Splendor, O Living One, O Eternal One.

A R R A H M A H



اے اللہ! بے شک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں بوجہ اس کے کہ سب تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، بہت احسان کرنے والا، آسمانوں اور زمین کو نئے سرے سے پیدا کرنے والا، اے بزرگی اور عزت والے، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اور اے ہمیشہ قائم رہنے والے۔

48: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

None has the right to be worshipped but Allah and Allah is the Most Great, There is none worthy of worship except Allah alone, There is none worthy of worship except Allah with no partner or associate, There is none worthy of worship except Allah, all dominion is His and all praise is to Him, There is none worthy of worship and there is no power and no strength except with Allah.



اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اسی کے لیے ہی بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔

49: الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا لِلَّهِ

بِاللَّهِ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي

Praise to Allah and Glory be to Allah, and there is no God But Allah, and Allah is the Greatest and there is no power and no strength except with Allah. O Allah, forgive me my sins.

ساری تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں اور پاک ہے اللہ اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ سب سے بڑا ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے۔



A R R A H M A H

